

برامپٹن کو زیادہ مربوط اور قابل دوام بنانے کے لیے شراکت داری

سٹی نے پبلک ٹرانزٹ کے انفراسٹرکچر فنڈنگ کی مد میں وفاقی حکومت سے \$45.3 ملین سے زیادہ جبکہ صوبائی حکومت سے \$37.8 سے زیادہ کی سرمایہ کاری وصول کر لی ہے

برامپٹن، آن (28 جولائی 2020) – آج میئر پیٹرک براؤن اور سٹی کونسل نے حکومت کینیڈا اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے برامپٹن میں پبلک ٹرانزٹ انفراسٹرکچر میں براہ راست بہتری لانے کے لیے فراہم کی جانے والی سرمایہ کاری کو نہایت خوش آئند کہا ہے۔

انفراسٹرکچر اور کمیونٹیز کی وزیر محترم کیتھرین میک کینا نے پبلک ٹرانزٹ انفراسٹرکچر اسٹریم (PTIS) کے ذریعے چار منصوبوں میں حکومت کینیڈا کی جانب سے کی جانے والی \$45.3 سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔

منسٹر میک کینا کے اعلان کے بعد جناب عزت مآب پرامیبت سنگھ سرکاریہ، ایسوسی ایٹ منسٹر آف سماں بزنس اینڈ ریڈیو ٹیلی ویژن ریڈکشن اور ممبر آف پروویونٹ پارلیمنٹ برائے برامپٹن ساؤتھ نے جناب عزت مآب لوری سکاٹ، اونٹیریو منسٹر آف انفراسٹرکچر کی جانب سے اعلان کیا کہ پبلک ٹرانزٹ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس میں حکومت اونٹیریو کی جانب سے \$37.8 سے زیادہ کی خطیر رقم کی سرمایہ کاری فراہم کی جا رہی ہے۔

سٹی آف برامپٹن \$30.2 ملین سے زائد رقم شامل کر رہا ہے؛ جو سب انویسٹنگ ان کینیڈا انفراسٹرکچر پلان کے ذریعے ہو گی۔

ان چار پراجیکٹس میں شامل ہیں:

- **2020-2021 میں بسوں کی تبدیلی:** خدمات کے موجودہ درجات کو برقرار رکھنے اور استعمال سے نکالنے والے فلیٹ کی جگہ لینے کے لیے 32 روایتی بسوں کی خریداری۔
 - وفاقی فنڈنگ: \$9,132,000
 - صوبائی فنڈنگ: \$7,609,239
 - میونسپل فنڈنگ: \$6,088,761
- **2020-2024 بسوں کی تجدید:** 300 روایتی بسوں کی تجدید، بشمول بڑے پرزوں کی مرمت اور تبدیلی، مثلاً انجن، سسپینشنز اور بریکس۔
 - وفاقی فنڈنگ: \$22,243,218
 - صوبائی فنڈنگ: \$18,534,161
 - میونسپل فنڈنگ: \$14,830,666
- گاڑیوں میں موجود کیمروں اور ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈرز کی تبدیلی: پورے بس فلیٹ میں نئی ٹیکنالوجیاں شامل کرنا۔
 - وفاقی فنڈنگ: \$2,000,000
 - صوبائی فنڈنگ: \$1,666,500
 - میونسپل فنڈنگ: \$1,333,500
- **ڈاؤن ٹاؤن ٹرانزٹ موہیلیٹی ہب:** ایک نئی ٹرانزٹ ہب بس بیس کی تعداد بڑھائے گی، مزید خدمت کی فراہمی کو ممکن بنائے گی، نئی بس کینوبیاں، انتظار کی جگہ، رعایتیں فراہم کرے گی اور اس میں الیکٹریک بسیں رکھنے کے لیے ہب کو اپ گریڈ کرنے کے تقاضے شامل ہوں گے۔
 - وفاقی فنڈنگ: \$12,000,000
 - صوبائی فنڈنگ: \$9,999,000
 - میونسپل فنڈنگ: \$8,001,000

اقتباسات

"آج اعلان کردہ سرمایہ کاریاں ہمارے تیزی سے بڑھتے ہوئے ٹرانزٹ سسٹم کی گنجائش اور معیار کو بڑھانے میں مدد دیں گی، جو تمام لوگوں کے لیے نقل و حمل کا ایک محفوظ تر اور صحت بخش تر حل فراہم کرے گا۔ ہمارے وفاقی اور صوبائی شراکت داروں کی مدد کے

ساتھ، ہم اپنے انفراسٹرکچر کو برقرار رکھ کر اور بڑھا کر اپنی کمیونٹیوں میں سرمایہ کاری کرنے کے قابل ہیں۔ قابل بھروسہ ٹرانزٹ خدمات اور نوکریوں تک رسائی بڑھانے میں مدد دیتا ہے، گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی لاتا ہے اور ہماری کمیونٹی کی مجموعی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ میں یہاں برامپٹن میں اپنی کمیونٹی کی معاونت کے لیے اپنی مسلسل شراکت داریوں کے لیے پر امید ہوں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"آج کا اعلان ہمارے شہر کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ چاروں پراجیکٹ ہماری کمیونٹی اور ٹرانزٹ پر انحصار کرنے والے لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کمیونٹیوں کو فراہم کیے جانے والے معیار زندگی کو بہتر بناتی ہے۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"آج کی یہ سرمایہ کاری براہ راست ہماری کمیونٹی اور اس کی مستقبل کی بڑھوتری کی طرف جائے گی، اس کا اثر بہت زیادہ رہائشیوں کی زندگیوں پر ہو گا۔ ایک صحت مند تر اور زیادہ قابل استحکام کمیونٹی کو ممکن بناتے ہوئے، جب ہم اپنی کمیونٹیوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو یہ سب کی حیت ہوتی ہے۔"

- شامین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز 7 اور 8؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے نقل و حرکت کے نظاموں میں سے ایک کا گھر ہے۔ ہمارے وفاقی اور صوبائی شراکت داروں کی مدد سے، ہم اپنے رہائشیوں کو آنے والے سالوں کے لیے نقل و حمل کا ایک قابل استحکام ذریعہ فراہم کرنے کے قابل ہیں۔ انفراسٹرکچر کی ترقی اور بڑھوتری ہماری کمیونٹی کے مستقبل میں ایک اہم سرمایہ کاری ہیں۔ ہم اپنے شہر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان شراکت داریوں پر کام جاری رکھیں گے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca